

سوال

نمبر 404

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

ت عرصہ سے یہ حدیث مجھے معلوم ہے اس پر عمل پیرا ہوں۔ حدیث یہ ہے :

هَذِهِ الْأُمَّةُ - عَلَى ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَاصْحَابِي

امت۔ تتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے اور وہ ایک (نجات پانے والا فرقہ) وہ ہے جو اس طریقے پر ہے جس طریقے پر ہوگا جس پر اب میں اور میرے صحابہ ہیں۔“

یہ حدیث اسی طرح معلوم ہے۔ لیکن ایک دن میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اس میں یہی حدیث ذکر کی گئی تھی۔ لیکن آخری الفاظ اس طرح تھے :

النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

کے سوا سب جہنم میں جائیں گے“

نہم! اس روایت سے مجھے سخت غلجان پیدا ہوا۔ کیا واقعی ایک کے سوا سب فرقے جہنم میں جائیں گے یا ایک کے سوا سب جنت میں جائیں گے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

م السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

ام روایتوں میں حدیث کے یہی الفاظ ہیں :

النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

کے سوا سب جہنم میں جائیں گے“

اور یہی ثابت ہے۔ یہ الفاظ کہ

النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

کے سوا سب جنت میں جائیں گے“

ان کی کوئی اصل نہیں۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ دارالسلام

ج 1

محدث فتویٰ